

20 جون 2018

سٹی آف برامپٹن میں کینیڈا ڈے

برامپٹن، آن - برامپٹن سٹی ہال بروز پیر، مورخہ 2 جولائی 2018 کو کینیڈا ڈے کے سلسلے میں بند رہے گا۔ شہر کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔ شہری اس وقت کے دوران شادی کے لائسنسوں، غلط پارکنگ پر جرمانے بھرنے اور پرمٹس کے لیے خود تشریف لا کر درخواستیں نہیں دے سکیں گے۔ آن لائن سہولیات کے لیے، برائے مہربانی ملاحظہ کریں www.brampton.ca

کئی خدمات معمول کے مطابق کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول: فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور بائی لاء انفورسمنٹ۔ سٹی آف برامپٹن کی سروسز میں ردوبدل اور بندش کے متعلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی 311 پر کال کریں یا www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

برامپٹن میں کینیڈا ڈے منایا جا رہا ہے

بروز اتوار، مورخہ 1 جولائی کو چنگواکوسی پارک میں کینیڈا ڈے کی خوشیاں منانے میں سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شامل ہو جائیں۔

کینیڈا ڈے کی تقریبات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے 1 جولائی کو چنگواکوسی پارک کے ارد گرد کچھ سڑکوں کے مخصوص حصے ٹریفک کے لیے بند رہیں گے۔

سٹی کی کینیڈا ڈے کی تقریبات، بشمول بند کی جانے والی سڑکوں کی مکمل فہرست کے لیے، 311 پر کال کریں یا www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

برامپٹن ٹرانزٹ سروس

کینیڈا ڈے ویکینڈ کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ کا شیڈول درج ذیل ہو گا:

- اتوار، 1 جولائی: سنڈے سروس - ٹرانزٹ اسٹور بند رہیں گے
- پیر، 2 جولائی: سنڈے سروس - ٹرانزٹ اسٹور کھلے رہیں گے

روٹ اور شیڈول کے بارے میں معلومات کے لیے 905.874.2999 پر کال کریں یا www.bramptontransit.com ملاحظہ کریں یا nextride.brampton.ca پر جائیں۔

فائر ورکس کی سیفٹی

رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ چنگواکوسی پارک میں 1 جولائی کو رات 10 بجے ہونے والے آتش بازی کے مظاہرے میں شرکت کریں۔

کینیڈا ڈے سال کے ان چار منظور شدہ مواقع میں سے ایک ہے، جن کے دوران ذاتی املاک پر پرمٹ کے بغیر چھوٹی حد والی آتش بازی کی اجازت ہے۔ چھوٹی حد والی آتش بازی وہ ہوتی ہیں، جنہیں لگایا جائے، تو وہ تین میٹر (10 فٹ) سے کم دور جاتی ہیں (مثلاً فاؤنٹینز، ویلرز، گراؤنڈ سپنرز، سپارکلرز)۔ دیگر تمام راکٹ کی قسم کی آتش بازی برامپٹن میں بین شدہ ہیں۔ سٹی رہائشیوں کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ گلیوں، سائیڈ واکس، سٹی پارکس کے اندر یا میونسپل یا اسکول کی املاک پر آتش بازی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

اپنی املاک پر چھوٹی حد والی آتش بازیوں کے استعمال میں، آپ کو ان [حفاظتی تدابیر](#) پر لازمی عمل کرنا چاہیے:

- آپ کے پاس پانی کا ایک برتن یا ہوز لائین موجود ہونی چاہیے، جو آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی سے بھرا ہو۔
- آپ کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں سپارکلر کے علاوہ کوئی دیگر آتش بازی جلانی یا پکڑنی نہیں چاہیے۔
- سپارکلرز کو استعمال کرنے کے بعد، پھینکنے سے پہلے پوری طرح ٹھنڈے ہونے کے لیے پانی کے کسی برتن میں ڈال دیں
- آتش بازیوں کو پھینکنے سے پہلے انہیں پوری طرح ٹھنڈا ہونے دیں

برامپٹن لائبریری

برامپٹن میں لائبریریوں کی تمام شاخیں (سوک سنٹر میں موجود چنگواکوسی، سائرنل کلارک، فور کارنرز، گور میٹوز، ماؤنٹ پلیزینٹ ویلج، اسپرنگ ٹیل اور ساؤتھ فلیچرز) اتوار 1 جولائی اور پیر 2 جولائی کو بند رہیں گی۔

مزید معلومات کے لیے 905.793.4636 یا 311 پر کال کریں یا www.bramptonlibrary.ca ملاحظہ فرمائیں۔